



سوال

(147) نانخنوں کو چالیس دن تک نہ کاٹنا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

اپنے نانخنوں کو چالیس دن سے زیادہ چھوڑے رکھنا کیسا ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اس میں تفصیل ہے: اگر یہ عمل کفار کی پیروی میں ہو جن کی فطرت ہی مسح ہو چکی ہے تو یہ کام حرام ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

”جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے تو وہ ان ہی میں سے ہے۔“ (سنن ابی داؤد، کتاب اللباس، باب فی لبس الشجرة، حدیث: 4031 و مصنف ابن ابی شیبہ: 212/4، حدیث: 19401 و مسند احمد بن حنبل 50/2، حدیث: 5114، 5115)

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:

”اس حدیث سے کم از کم یہ بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ ایسا کام حرام ہے، اگرچہ اس کے ظاہر کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ان کی مشابہت کرنے والا کافر ہے۔“

اور اگر ناخن بڑھانے کا سبب محض خواہش نفس ہو جیسے کہ انسان کی طبیعت میں ہوتی ہے تو یہ عمل خلاف فطرت ہے اور اس ارشاد نبوی کی مکالفت ہے جو آپ نے اپنی امت کے لیے اس مسئلہ میں مقرر فرمایا ہے۔

ہذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب

احکام و مسائل، خواتین کا انسائیکلو پیڈیا

صفحہ نمبر 180



محدث فتویٰ